

نماز کی نیت کرنا

پہلے بحالت وضو قبلہ رخ سیدھا کھڑے ہوں، دونوں قدموں کے بیچ چار انگلیوں کا فاصلہ ہو۔
اب دل میں نیت کریں کہ فلاں وقت کی فرض نفل سنت وغیرہ پڑھنے جا رہا ہوں۔
اگر زبانی نیت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے (تاہم دل سے نیت کر لینا کافی ہے)

نماز کی نیت باندھنے کے لیے مذکورہ ذیل طریقہ اپنائے۔

نیت کی میں نے دو/تین/۳/چار/۴ رکعت فرض یا واجب یا سنت یا نفل نماز جمعہ
یا فجر یا ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء کی واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کے طرف اگر
باجاماعت نماز پڑھنے جا رہا ہو تو اتنا اضافہ کر لے کہ ”پیچھے اس امام کے۔“